

## اپنٹ کا جواب پڑھ

جودھ پور سے دس میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ یہ کسان بہت غریب تھا لیکن تھا وہ بہت عقلمند۔ صبح سے شام تک محنت کرتا پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرتا تھا۔ اس کی بیوی اس حالت سے پریشان تھی۔ وہ سوچتی کہ ان کی بھی کیا زندگی ہے کہ ساری عمر یوں ہی پریشانی میں گزر رہی ہے۔ ایک دن اس نے کسان سے کہا۔ ”دیکھو جی! ہمیں اس گاؤں میں رہتے ہوئے اتنے دن ہو گئے اور ہم نے کسی کی دعوت تک نہیں کی۔ آخر ایسا



بھی کیا۔ اب کی فصل پر میں سب گاؤں والوں کو کھانا کھلاؤں گی۔“ کسان کیا کہتا خاموش ہو گیا۔ فصل کا وقت آیا تو ان کے پاس اناج اتنا نہ تھا کہ دعوت ہو سکتی۔ جب بیوی نے بہت ضد کی تو وہ اپنا بیل بیچنے کو تیار ہو گیا۔ جب بیل کو

لے کر چلا تو بیوی نے کہا۔ دیکھو اس بیل کے کم سے کم سور و پیہ مانگنا اور اگر کوئی تیار نہ ہو تو اسی کہنا اور پھر ستر کہنا مگر دیکھو کسی طرح سامنہ سے کم پر نہ بیچنا۔“

کسان بیل کو لے کر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بھیڑیں چرانے والا ملا۔ وہ اپنی بھیڑیں چارہاتھا۔ کسان کو دیکھ کر اس نے پوچھا ”بھیٹا کہاں جا رہے ہو؟“ کسان نے جواب دیا۔ ”میں بیل بیچنے جا رہا ہوں۔“ ”ارے بیل کی تو مجھے بھی ضرورت ہے۔ کتنے روپیہ لو گے؟“ گذریا بولا۔ ”بھی ہماری گھروالی نے اس بیل کے سور و پیہ بتائے ہیں۔ اس لیے ہم سور و پیہ میں بیچیں گے“، کسان نے جواب دیا۔

”دیکھو یہ تو بہت ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی اور آدمی سے بیل کے دام پوچھتے ہیں۔ جو دام وہ بتائے وہی بیل کے دام ہوں گے۔“



کسان اس بات پر بتیار ہو گیا۔ وہ دونوں آگے بڑھے تو سامنے ٹیلے پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں اس بیل کو لے کر اس بوڑھے کے پاس پہنچ اور کہا۔ ”بابا اس بیل کی کیا قیمت ہو گی؟“ بوڑھا سوچتا رہا کچھ انگلیوں پر حساب لگاتا

رہا اور پھر بولا۔ ”چودہ روپیہ۔“

کسان یہ سُن کر حیران رہ گیا مگر بات کا پکا تھا۔ یہ کہہ چکا تھا کہ جو قیمت یہ بتائیں گے منظور ہے اس نے چودہ روپیہ لے کر بیل اُسے دے دیا۔ گھر لوٹا تو بیوی ناراض ہوئی اور اُس نے کہا۔ ”ضرور وہ کوئی ٹھگ تھا۔ تمھیں اس سے اس حرکت کا بدلہ ضرور لینا چاہیے۔“

دوسرے دن کسان نے عورت کا بھیس بدلا۔ گھنے پہنے اور اسی طرف روانہ ہوا۔ عورت کو ایسے آتا دیکھ کر گذریے نے کہا۔ ”کہاں جا رہی ہو؟“ کسان نے باریک آواز بنا کر جواب دیا۔ ”گھر چھوڑ کر آئی ہوں اب جو دال روٹی دے گا اُسی کے ساتھ رہوں گی۔“

گذریا خوش ہو گیا کہنے لگا۔ ”چلو میرے گھر چلو وہاں تمھیں کوئی ڈکھنے دوں گا اور تمھارا ہر طرح خیال رکھوں گا۔“ دونوں گھر پہنچے۔ کسان نے دیکھا کہ وہ بوڑھا جس نے اس کے بیل کی قیمت لگائی تھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ فوراً سب کچھ سمجھ گیا۔ گذریا بولا۔ ”بابا آج تو یہ عورت لے کر آیا ہوں اب میں اسے گھر میں رکھوں گا بوڑھا بولا۔“ ارتے تم نوجوان ہوتم پھر شادی کر لینا یہ عورت میری خدمت کرے گی۔“

یہ سُن کر گذریا اس عورت کو چھوڑ کر پھر اپنے کام پر چلا گیا۔ بوڑھے نے اس عورت کو سارے گھر کی سیر کرائی اور تمام کمرے دکھائے۔ اُس نے کہا کہ ان کمروں میں روپیہ گٹا ہے یہ سب تیرا ہے، جب کسان نے دیکھا کہ جوان بہت دور چلا گیا ہے تو اُس نے ڈنڈا لے کر بوڑھے کو خوب پیننا شروع کر دیا وہ پٹنا جاتا اور کہتا جاتا ”میرا نام اپنٹ کا جواب پھر میرا نام اپنٹ کا جواب پھر“ بوڑھا پتتے پتتے بے ہوش ہو گیا۔ کسان نے اس کے گھر سے روپیہ نکالا اور چل دیا۔ کسان کی بیوی اتنا بہت سارو روپیہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کسان نے کہا۔ ”ابھی بدلے پورا نہیں ہوا اب دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔“ دوسرے دن وہ وید کا روپ بدل کر اُس ٹھگ کے گھر کے باہر پہنچا اور آواز لگائی۔ ”دَوَالُوَدَوَا۔۔۔“

ٹھگ تو وہاں پڑا ہی ہوا تھا اس کے سارے بدن پر چوٹ آئی تھی اُس نے اسے اندر گلایا۔ اندر گلایا تو

دیکھا کہ وہاں دونوں موجود ہیں اس نے جوان سے کہا کہ تھوڑا سا بھیڑ کا دودھ لے آؤ میں دوا بناتا ہوں جوان تو باہر گیا اور کسان نے پھر اس بُوڑھے کو پیٹنا شروع کیا پیٹتے جاتا اور کہتا جاتا میرا نام اپنٹ کا جواب پھر جب بُوڑھا مار کھاتے کھاتے گر پڑا تو کسان نے دوسرا کمرے کاروپیہ بھی نکال لیا اور چل پڑا۔ اب اس کے پاس دو کمروں کا روتھا ب دو کمروں کا باقی تھا۔ تیسرا مرتبہ اس نے جو توشی کا روپ بدلا اور چل دیا۔ راستے میں وہی گڈر یا ملا گڈر یے نے کہا۔ ”مہاراج دو دن سے کوئی شخص اپنٹ کا جواب پھر“ آتا ہے اور ہمیں مار پیٹ کر بھاگ جاتا ہے اس کا پتہ بتائیے“، جو توشی نے حساب لگایا اور کہا۔ ”تم مندر میں جاؤ اور وہاں ایک گھنٹہ تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پر ارتھنا کرو وہ شخص خود تمہارے قبضہ میں آجائے گا۔“



گڈر یا مندر میں پہنچا تھوڑی دیر بعد کسان پھر گھر میں داخل ہوا اور اس نے اسی طرح بُوڑھے کی خوب پٹائی کی۔ جب بُوڑھا بے ہوش ہو گیا تو تیسرا کمرے کاروپیہ بھی نکالا اور چلتا ہتا۔ اب بس ایک کمرہ باقی تھا۔ کسان سوچنے لگا کہ اب کیا ترکیب ہو وہ ایک دن اپنے گاؤں کے باہر نکلا تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا۔ ”سوار بھائی سوار بھائی تم کہدھر

اپنٹ کا جواب پھر  
جاتے ہو؟“

57

”ہمارے ٹھاکر صاحب کا اوٹ گم ہو گیا ہے میں اس کو ڈھونڈنے جاتا ہوں۔“ اُس سوارنے کہا۔ کسان کے ذہن میں فوراً ایک ترکپ سمجھ میں آگئی اس نے کہا۔ ”میں تمھیں بتاتا ہوں میرے ساتھ چلو۔“ اُسے کسان اُسی لمحگ کے گھر کی طرف لے گیا اور اُس سے کہا۔ ”یہی وہ گھر ہے۔ اسی گھروالے نے اوٹ پکڑا ہے تم اس کے یہاں جانا اور کہنا کہ اپنٹ کا جواب پھر آگیا ہے اب سنبھلو۔“

سوارنے ایسا ہی کیا، جب گذریے نے یہ نام سننا تو ڈمڈا لے کر پچھے دوڑا اور اُسے دوڑتے دیکھ کر سوار گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگ گیا۔ آگے آگے سوار اور پیچھے پیچھے گذریا، جب گذریا بہت ڈور نکل گیا تو کسان گھر میں داخل ہوا اور پھر بوڑھے کو پینٹے کے لیے آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اب آیا ”اپنٹ کا جواب پھر“ یہ نام سن کر بوڑھا پھر بے ہوش ہو گیا



اور کسان چوتھے کمرے کا روپیہ بھی لے گیا اس طرح اس نے اپنابدلہ لیا۔  
کچھ دنوں بعد اس نے گاؤں والوں کی بڑی زوردار دعوت کی اور ہنسی خوشی رہنے لگا۔  
راجستان کی لوک کہانی

## سوالات

1. کسان اپنا بیل بیچنے کے لیے کیوں میتھا رہ گیا؟
2. بیل کی قیمت کے بارے میں کسان کی بیوی نے کیا بہایت کی؟
3. گڈریے نے بیل خریدنے کے لیے کیا چالاکی کی؟
4. گڈریے سے بدلہ لینے کے لیے کسان نے پہلی بار کیا کیا؟
5. کسان نے دوسری اور تیسرا مرتبہ گڈریے سے کس طرح بدلہ لیا؟
6. چوتھے کمرے کا مال حاصل کرنے کے لیے کسان نے کیا کیا؟
7. یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اپنے الفاظ میں لکھیے۔